

DI(2-ETHYLHEXYL) SEBACATE	ڈائی(2-ethylhexyl) سبیکیٹ	ICSC: 1290
CAS # 122-62-3 RTECS # VS1000000 UN # EC # EINECS# 204-558-8 UN Hazard class:	<p>دیگر نام:</p> <p>Sebacic acid, bis(2-ethylhexyl)ester Bis(2-ethylhexyl) sebacate Decanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester Diocetyl sebacate</p> <p>فارمولا: C₂₆H₅₀O₄ / CH₃(CH₂)₃CH_{(C₂H₅)COOCH₂CH(C₂H₅)(CH₂)₃CH₃}</p> <p>سامانی وزن:</p>	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ	بچاؤ	خطے کی قسم
پاودر، کاربن ڈائی آسائیڈ AFFF	کھلے شعلے اور سگریٹ نوشی سختی سے منع میں۔	بلنے والا مادہ۔ آگ:
		دھاکہ:
		جسم میں داغنہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کریں	سانس کے راستے:
خراب شدہ کپڑے اتار دیں پانی بھائیں پھر جلد کو پانی اور صابون سے دھوئیں	ھناظتی دستائے استعمال کریں	جلد کے راستے:
پہلے کمی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	ھناظتی چیزیں استعمال کریں	آنکھوں میں پڑنا:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں۔ پینے کے لیے وافر پانی دیں۔	کام کے دوران خود دنوں اور سگریٹ نوشی مت کریں	نگلنے کی صورت میں:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:	بچھرنے کی صورت میں اقدامات:	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

DI(2-ETHYLHEXYL) SEBACATE	ڈائی(2-لہتھائل ہیکسیل) سبیکٹ	ICSC: 1290
اتم معلومات		
سانس کے راستے داغے کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ پر اس کی مقدار کے ہوا میں خطرناک حد تک پہنچنے کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا	طبعی حالت: بے رنگ روغنی مائع کیمیائی خطرات: تیکیدی مادوں کے ساتھ عمل کرتا ہے ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے	
طبعی خواص		
فلیش پوائنٹ: 210°C o.c	نقطہ بوش : [256] سنٹی گریڈ نقطہ پگھلاو: [-48] سنٹی گریڈ کثافت اضافی (بال مقابل پانی = 1): 0.9 پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): بالکل نہیں 20 سنٹی گریڈ پر بخاراتی پریش: [0.000024] Kpa بخارات کی کثافت اضافی: 14.7	
محولیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
اس مادے کے صحت پر اثرات پر تحقیق کی گئی ہے لیکن کوئی ضرر سامان اثرات دریافت نہیں ہوئے [Bisoflex DOS, Monoplex DOS, Octoil تجارتی نام میں S, PX 438, Staflex DOS, Uniflex DOS, Plexol 201, Edenol 888, Reolube DOS]		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety		Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999